



صحت افزا عادات

حمل سے قبل،
دوران اور اس
کے بعد

حمل سے قبل



► حاملہ ہونے سے قبل آپ ایک صحت افزا حمل کے دورانیے کے لیے تیاری کر سکتے ہیں - اضافی طور پر folsyre (وٹامن کی قسم) لینا شروع کریں اور الکھل اور تمباکونوшی سے بچیں

وٹامن کی قسم) - اضافی خوراک Folsyre

جب سے آپ حاملہ ہونے کا سوچیں اس وقت سے روزانہ 400 میکروگرام folsyre لیں - B ، folsyre وٹامن کے گروپ میں شامل ہے - folsyre اس خطرے کو کم کرتا ہے کہ بچہ حرام مغز کی ساخت میں نقص کے ساتھ پیدا ہو (اعصاب کے نالی میں نقص)

الکھل ختم

حمل کے آغاز سے اور آئندہ دورانیے میں الکھل بچے کو نقصان پہنچا سکتا ہے - اگر آپ حاملہ ہونے کا سوچتے ہیں اور کیونکہ بار آوری کے عین وقت جاننا مشکل ہو سکتا ہے، اس لیے آپ کو الکھل نہیں پینا چاہیے

اگر حمل کا وجود منصوبے کے تحت نہیں تھا اور آپ نے الکھل پیا ہے تو شاذونادر بی پریشانی کی کامانہ ہو سکتا ہے - ممکنہ صورت میں ابتدائی حمل کے معائینے کے وقت ڈاکٹر دائیہ سے بات کریں

تمباکونوшی ختم

تمباکونوшی اخراج بیضہ کے عمل کو متاثر کرتی ہے اور کچھ شواہد ہیں کہ مرد کے منی کا معیار تمباکونوшی سے خراب ہوتا ہے - تمباکونوшی بچے کی نشوونما کے لیے نقصان دہ ہے - اس لیے جب حمل کا منصوبہ بن گیا ہے تو اسی وقت سے تمباکونوшی چھوڑنا بہتر ہے

ادویات کا تجزیہ کریں

اگر آپ اس دورانیے میں حاملہ ہونے کا منصوبہ بنا رہے ہیں جس میں آپ ادویات کے ذریعے زیر علاج ہیں تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے گفتگو کرنی چاہیے کہ آیا علاج کو جاری رکھا جائے، تبدیل کیا جائے یا بند کیا جائے

لنس:

www.altomalkohol.dk:

80 31 31 31 31 ٹیلیفون www.stoplinien.dk
(تمباکونوшی چھوڑنا)

کیا آپ ایک صحت افزا حمل کے دورانیے کے لیے تیار ہیں؟

مزید پڑھیں	
صفحہ 3	<p style="text-align: right;">قبل ▶</p> <p>آپ ایک صحت افزا حمل کے دورانیے کی تیاری کے لیے اضافی طور پر (وٹامن کی قسم) لین گے اور تمباکونوшی اور الکھل سے پرہیز کریں گے</p>
صفحہ 5	<p style="text-align: right;">دوران ▶</p> <p>دوران آپ کو خوراک کے سرکاری مشوروں سے واقفیت ہے اور معلوم ہے کہ آپ کو ۲ کی طرح کھانا ہے</p>
صفحہ 8	<p style="text-align: right;">اضافی طور پر خوراک</p> <p>آپ پہلے سے folsyre لے رہے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ اضافی طور پر آپ کو کس طرح کی خوراک کی ضرورت ہے</p>
صفحہ 10	<p style="text-align: right;">جسمانی سرگرمی</p> <p>آپ روزانہ کم از کم $\frac{1}{2}$ گھنٹے کے لیے حرکت میں آتے ہیں اور ان حرکات سے واقفیت ہے جو دوران حمل خصوصاً مفید ہوتی ہیں</p>
صفحہ 12	<p style="text-align: right;">الکھل، تمباکونوшی، ادویات</p> <p>آپ الکھل اور دھوئیں سے پرہیز کرتے ہیں جو بچے کی نشوونما کو نقصان دے سکتے ہیں۔ آپ فقط وہ دوا لیتے ہیں جو ڈاکٹر سے طے شدہ ہے</p>
صفحہ 14	<p style="text-align: right;">کام کی جگہ</p> <p>آپ نے تجزیہ کیا ہے کہ آیا آپ کے کام کی جگہ پر اثرات ہیں جو حمل کے دوران نقصان دہ ہو سکتے ہیں</p>
صفحہ 14	<p style="text-align: right;">کھر - ذاتی دیکھ بھال</p> <p>آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے جلد کی کریم، پارفیوم اور بناؤ سنگھار کا سامان کا کم استعمال کرنا ہے</p>
صفحہ 14	<p style="text-align: right;">کچن میں حفظان صحت</p> <p>آپ کو معلوم ہے کہ آپ خوراک کی مصنوعات سے بیماریوں کے منتقل ہونے سے کیسے پرہیز کریں گے</p>
صفحہ 15	<p style="text-align: right;">بعد ▶</p> <p>آپ کو معلوم ہے کہ بچے کو چھاتی کا دودھ پلانا اور دھوئیں سے پاک ماحول میں ہونا سب سے زیادہ صحت افزا ہے</p>

خوراک



◀ کچھ حاملہ خواتین کی بھوک بڑھ جاتی ہے اور بھوک کے وقت متلی سے دوچار ہوا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اس سے دوچار ہوتے ہیں تو زیادہ بار لیکن کم مقدار میں کھانا نوش کریں۔ اور جو آپ کھائیں تو صحت افزا خوراک ہو۔

مجوزہ مشوروں پر عمل کریں

▪ متنوع اور مختلف اقسام کی غذا کھائیں مگر زیادہ نہ کھائیں، جسمانی طور پہ متھر ک رہیں

▪ کافی مقدار میں سبزیات اور پھل کھائیں

▪ کافی مقدار میں مچھلی کھائیں

▪ سالم اناج کا انتخاب کریں

▪ کم چربی والا گوشت اور گوشت کے قتلوب کا انتخاب کریں

▪ کم فیٹ والے دودھ کی مصنوعات کا انتخاب کریں

▪ گندھی ہوئی چربی کا کم استعمال کریں

▪ کھانے میں نمک کم استعمال کریں

▪ شکر کم استعمال کریں

▪ پانی پیئیں

▪ پر جا کر پڑھئے www.altomkost.dk

حمل کے دوران

کھاتے ہیں تو جسم ان سٹوروں کو استعمال کرتا ہے جو جسم میں چھپے ہوتے ہیں

اپنے جسم کی دیکھ بھال کے لیے اور بچے کو بہتر لوازمات مہیا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کھانا صحت افزا اور مختلف انواع کا ہو اور وہ اضافی خوراک لیں جو صفحہ 8 پر درج ہے


► جو کچھ آپ کھاتے اور پیتے ہیں اس کا اثر رحم مادر میں بچے کی نشوونما پر ہوتا ہے

آپ بچے کو غذا فراہم کرتے ہیں
بچے کو آکسجن، توانائی، وٹامن اور معینیات کی ضرورت ہوتی ہے - جو غذا آپ کھاتے ہیں وہ بنیادی طور پر بچے کو جاتی ہے - اگر آپ پر غذائی مرکبات ناکافی

جو کچھ آپ کھاتے پیتے ہیں بچہ اس سے متاثر ہوتا ہے

بچہ بڑھتا ہے اور آپ کی رحم مادر میں زندہ رہتا ہے، باراًوری سے لے کر وضع حمل تک۔ غذائی مرکبات اور آکسجن اور ممکنہ مضر مرکبات آپ کے خون، آنول اور آنول نال کے ذریعے سے بچے تک پہنچتے ہیں

بچے کا خون آنول نال کے ذریعے تک آنول تک پہنچتا ہے۔ آپ اور بچے کے خون کے مابین غذائی مرکبات اور ردی مواد کا تبادلہ، رحم مادر میں ایک پتالے پردے کے ذریعے سے ہوتا ہے، لیکن آپ خون نہیں باٹتے۔ بچہ آپ سے نئی غذا پاتا ہے اور ردی مواد آپ کو منتقل کرتا ہے۔ رحم مادر کی ظاہری تہ بہت بڑی ہوتی ہے اور مرکبات کا تبادلہ باقائدگی سے اور موثر طریقے سے ہوتی ہے۔ یعنی اگر آپ مثلاً الکھل پیتے ہیں، تمباکونوشی کرتے ہیں یا منشیات لیتے ہیں تو بچہ بہت جلدی متاثر ہوتا ہے



تقریباً 500 کیلوولیز

- زیادہ چھان والی گندم کی بریڈ کا یک سلاس پنیر اور لور پُستائرے والی غو بریڈ کا ایک سلاس/سیل/سور اور 1 گلاس منی ملک/1 عدد پہل/1 عدد گاجر۔

کچھ حاملہ عام حالات کی نسبت زیادہ بھوک محسوس کرتی ہیں۔ تاہم حمل کے ابتدائی دنوں میں غذا کی اضافی ضرورت تقریباً 100 کیلوولیز ہوتی ہے اور حمل کے اختتام میں تقریباً 500 کیلوولیز ہوتی ہے۔

آپ کا وزن

اگر آپ ضرورت سے زائد کھائیں گی تو یہ غالباً چربی کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ بہت سی خواتین کا حمل کے دوران وزن کافی بڑھ جاتا ہے اور وہ وضع حمل کے بعد زائد وزن کم کرنے میں کامیاب نہیں ہوتی ہیں

نیچے دیکھیں کہ پورے حمل کے دوران آپ کا وزن کتنا بڑھنا چاہیے۔ سب سے زیادہ وزن کے بڑھنے کا عمل حمل کے آخری مرحلے میں واقع ہوتا ہے جہاں آپ کا وزن ہفتے میں $\frac{1}{2}$ کلو بڑھ سکتا ہے

تقریباً 100 کیلوولیز:

- دو عدد پہل (سیب، ناشپاتی، مالٹا) یا 1 عدد پہل/گاجر اور منی ملک کا ایک گلاس یا زیادہ چھان والی گندم کا بال یا ایک چھوٹا انڈا یا تقریباً 20 عدد بادام

بچے کی پیدائش سے قبل وزن کے بڑھنے کی شرح اس طرح ہوتی ہے:

تقریباً 3,5 کلو

بچہ

تقریباً 3,5 کلو

رحم مادر، آنول، جنین پانی اور چھاتی

تقریباً 2-4 کلو

جسم میں زیادہ خون اور پانی وغیرہ

تقریباً 1-4 کلو

چربی کے اضافی سُٹور

آپ کے لیے کتنا وزن کا بڑھنا موزوں ہے اس کا انحصار اس پر ہے کہ حمل سے پہلے آپ کا وزن کیا تھا۔ ممکنہ صورت میں اپنے ڈاکٹر یا دائیہ سے گفتگو کریں

13-18 کلو

کم سے کم BMI 18,5

کم وزن

10-15 کلو

BMI 18,5-24,9

ٹھیک وزن

8-10 کلو

BMI 25-29,9

زیادہ وزن

6-9 کلو

BMI 30 یا زائد

بہت زیادہ وزن

لنس: www.altomkost.dk www.meraadet.dk

www.komigang.com

خوراک کے بارے میں مزید...



۷ کی طرح کھائیں

1/5

- گوشت، پرندے، انڈے، پنیر اور
شوربہ ہو

2/5

- بریڈ، آلو، چاول اور پاستا ہو

2/5

- مختلف اقسام کی سبزیاں

ڈبہ ٹون کھانے کی سفارش کی جاتی ہے تاہم سفید ٹون یا الیبے کور ٹون نہ کھائیں۔ آپ بالٹک سمندر کی سالمن زیادہ سے زیادہ مہینے میں 125 گرام کھا سکتی ہیں کیونکہ اس میں ڈائی اوکسین بھاری مقدار میں ہوتی ہے۔

کلیجی نہ کھائیں

کلیجی اور levertran میں وٹامن A کی زیادہ مقدار ہوتی ہے جو بچے کے لیے مضر ہو سکتا ہے۔ کلیجی کا پیسٹ وغیرہ میں یعنی leverpostej وٹامن A کی کم مقدار ہوتی ہے اور خطرے کا باعث نہیں

کافی، چائے اور کولا

روزانہ 3 کپ کافی سے زائد نہ پیئیں اور دوسرے مشروب جن میں کیفین ہوتی ہے مثلاً چائے اور کولا، ان کو محدود کریں

دو افراد کا نہ کھائیں

اگر آپ عام مقدار میں صحت افزا کھانا کھاتے ہیں تو بچے کی غذا کی حاجت و ضرورت آسانی سے پوری ہو جاتی ہے



ہفتہ میں کئی بار مچھلی کھائیں

مچھلی صحت افزا ہے چونکہ اس کی چربی ڈی وٹامن، آبی ڈین اور سلینیئم حاصل کرنے کا اچھا ذریعہ ہے۔ آپ کو ہفتہ میں کل 350 گرام مچھلی کھانی چاہیئے جس میں سے 200 گرام مچرب مچھلی ہونی چاہیئے۔ اس میں (چپٹی مچھلی، غود ٹھونگ، سکروب، ٹھورسک، کھولم، کھولمل، سائے مچھلی کے انڈے شامل ہیں - مچرب مچھلی میں میکھرال سیل اور اپ ڈریتیڈ سالمن جیسی اقسام ہیں۔

گوشت خور شکاری مچھلی - ڈبہ میں بند ٹون اور بالٹک سمندر کی سالمن سے اجتناب کریں

حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں کو بڑی گوشت خور شکاری مچھلی کے ٹکڑے نہیں کھانے چاہیئں کونکہ اس میں پارہ کی بڑی مقدار ہوتی ہے۔ شکاری مچھلی مثلاً غوکہ، (escolar) بیلے فلوندر اور اولینے فسک سورڈ مچھلی، سیل شارک، بکرہ مچھلی ایبورے، سینڈارٹ اور ٹون مثلاً ٹون کے بڑے ٹکڑے۔ ہفتہ میں زیادہ سے زیادہ ایک عمومی

سبز، کم چکنابٹ والی اور دانے دار اور
سخت خوراک کی مصنوعات کھائیں -
اضافی خوراک کھائیں لیکن ہدایات سے
زائد نہ لین



اضافی خوراک

کے جوس کے ساتھ لیا جائے تو وہ بہتر طریقے سے جذب ہوتا ہے۔ آئرن خون کے سرخ خلیوں کی تشکیل میں استعمال ہوتا ہے

کیلٹم

روزانہ $\frac{1}{2}$ لیٹر دودھ کی مصنوعات یا اضافی کیلٹم

کیلٹم آسانی سے دودھ اور دودھ کی مصنوعات کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ دودھ کی مصنوعات نہیں کھاتی پہتی تو پورے حمل کے دوران روزانہ 500 میکروگرام اضافی کیلٹم لین

کیلٹم بچے اور آپ کی بیڈیوں پر اثر ڈالتا ہے

نکس:

→ www.sst.dk → www.altomkost.dk

حاملہ کے لیے وٹامن کی گولیاں
حاملہ کے لیے ایک ملٹی وٹامن معدینیات کی گولی پورے حمل کے دوران، مثلا folsyre (وٹامن کی قسم) اور D وٹامن کے مقدار کی حاجت کو پورا کرتی ہے

اس کے علاوہ آپ نے آئرن اور ممکنہ صورت میں کیلٹم لینا ہے۔ دواخانے سے پوچھیں

مشورے سے زائد اضافی خوراک نہ لین

◆ کچھ وٹامنز اور معدینیات آپ نے زیادہ لینی بہتی ہیں - کچھ دوسرے وٹامنز اور معدینیات آپ زیادہ نہیں لے سکتی ہیں، مثلا وٹامن A - اگر آپ کو شک ہے تو اپنے ڈاکٹر یا دواخانے سے پوچھیں

(وٹامن کی قسم) folsyre

■ جس دن سے حمل کا منصوبہ بنے folsyre 400 میکروگرام لیں حمل کے 12 ہفتے تک folsyre (وٹامن کی قسم) اس خطرے کو کم کرتا ہے کہ بچہ اعصاب کی نالی میں نقص کے ساتھ پیدا ہو۔ یہ ایک شاذ و نادر مرض ہے جو دماغ، کھوپڑی اور حرام مغز کی دماغ، کھوپڑی اور حرام مغز کی ساخت میں نقص کا باعث ہوتا ہے

D وٹامن

■ پورے حمل کے دورانیے میں روزانہ 10 میکروگرام D وٹامن جسم کو کیلٹم کو جذب کرنے اور اسے تبدیل کرنے کے لیے D وٹامن درکار ہے۔ یہ بچے کے بڑھنے اور بیڈیوں کی نشوونما، اور آپ کے دانتوں اور بیڈیوں کے لیے ضروری ہے۔ اگر ماں کو حمل کے عرصے میں D وٹامن کی کمی ہے تو بچہ بھی D وٹامن کی کمی سے دوچار ہو کر پیدا ہوتا ہے

آئرن

■ حمل کے ہفتے 10 سے روزانہ 40-50 میکروگرام آئرن اگر اضافی آئرن کو کھانوں کے درمیان، ایک گلاس جوس یا سبزیوں

جسمانی ورزش

ایسی ٹریننگ ہے جو گردش خون کے نظام کو بہتر کرے اور اسے برقرار رکھے اور جسمانی قوت برداشت کو بہتر کرے ۔ جسمانی صحت کی ٹریننگ ایسی حرکات پر مشتمل ہوتی ہے جن کے نتیجے میں دل کی دھڑکن اور نبض تیز ہو جاتی ہے ۔ ماتھے پر پسینہ، سرخ گال اور دل کی تیز دھڑکن صحت افزا علامات ہیں، حمل کے دوارن بھی

ویٹ لفتنگ

ایسی ٹریننگ ہے جو پٹھوں، ہڈیوں اور جوڑوں کو مضبوط کرتی ہے ۔ قطع نظر اس کے کیسے ویٹ لفتنگ کی جائے، اپنے اوپر زیادہ بوجہ ڈالنے سے اجتناب کرنا چاہیے ۔ مشینوں میں ویٹ لفتنگ اور ہدایات کے ساتھ زیادہ بوجہ ڈالنے سے خطرہ کم ہوتا ہے

پیڑو کے نچلے حصے کی ٹریننگ

پیڑو کے نچلے حصے کی مضبوطی سے غیر ارادی طور پر پیشاب کرنے کے خلاف حفاظتی طور پر تدابیر ہوتی ہیں، حمل کے دوران اور بعد بھی ۔ حاملہ ہونے کی صورت میں پیڑو کے نچلے حصے نے معمول کے خلاف زیادہ وزن اٹھانا ہوتا ہے ۔ پیڑو کے نچلے حصے کے پٹھے کی برقراری اور پختگی کے لیے بھینچنے کی حرکات فائدہ مند ہوتی ہیں



جسمانی نقل و حرکت

احتیاط برتنیں

بھاری اشیاء اٹھانا جو پیڑو کے نچے حصے اور کمر پر بوجہ ڈالے ۔ ایسی سرگرمیوں سے بھی اجتناب کریں جہاں پیٹ پر زوردار دباؤ یا شدت سے گرنے کا زیادہ خطرہ ہے

غوطہ خوری سے بچیں کہ پانی کا دباؤ بچے کو نقصان پہنچا سکتا ہے

لنس:

☞ www.sst.dk ☞ www.komigang.com

معتدل جسمانی نقل و حرکت کے معنی یہ ہیں کہ آپ اتنی تیزی سے حرکت کریں تاکہ آپ کا سانس پھول جائے ۔ لیکن مشقت آپ کے انتہا کی سطح پر نہ ہو

معتدل سرگرمی یہ ہو سکتا ہے:

- تیز رفتاری سے چلنا
- سائیکل پر سفر
- باغ میں کام
- تیراکی
- ویٹ لفتگ

► اچھی جسمانی صحت اور طاقتور پہنچے، بُدھیاں اور جوڑ، ایک صحت بخش حمل کے دورانیے کی بنیاد بنتے ہیں

روزانہ 10 منٹ

روزانہ 30 منٹ کی معتدل جسمانی ورزش کو یقینی بنائیں جسمانی صحت اور ویٹ لفتگ 30 منٹ کا حصہ ہو سکتے ہیں

اگر حمل کے دوران پیچیدگیاں ہوں تو دائیہ یا اپنے ڈاکٹر سے گفتگو کریں کہ کس طرح کی حرکات اور کس طرح کی سرگرمیاں آپ کے لیے موزوں ہیں

برقرار رکھیں یا شروع کریں

اگر حمل سے قبل آپ جسمانی ورزش کے حوالے سے زیادہ فعال تھے تو آپ وہی نقل و حرکت تھوڑی کم لیوں پر جاری رکھ سکتی ہیں ۔ اگر حمل سے قبل آپ اتنے فعال نہیں تھیں تو یہ اچھا ہے اگر آپ معتدل لیوں پر ورزش کرنا شروع کریں

پورے حمل کے دوران سرگرمی

آپ پورے حمل کے دوران سائیکل چلا سکتی ہیں، تیراکی کر سکتی ہیں اور پانی میں ورزش کر سکتی ہیں ۔ ایسی سرگرمیاں ہیں جو حمل کے آخری دور کے لیے خصوصاً موزوں ہیں اور ان خواتین کے لیے جن کی کمر یا پیڑو میں مسائل ہیں

ادویات کا دھیان رکھیں

- حتی المقدور کم ادویات لیں ۔ دستی ادویات اور قدرتی ادویات بھی

، اگر آپ ادویات کے ساتھ زیر علاج ہیں تو آپ حمل کے دوران آئندہ علاج کے حوالے سے اپنے ڈاکٹر سے بات کریں

- کچھ ادویاتی مصنوعات سے زیر حمل پرہیز کرنا ہوتا ہے، اور دوسرا ادویات کو بستور جاری رکھنا اہم ہوتا



لنسکس: ↗ www.altomalkohol.dk ↗ www.sst.dk ↗ www.stoplinien.dk



پیاس پانی سے بھجائیں

الکحل، تمباکونوشی اور ادویات

اگر آپ تمباکونوشی کریں
▪ صحت کے ادارے کا مشورہ ہے کہ آپ
تمباکونوشی چھوڑ دیں

اگر آپ ایسے تمباکونوشی چھوڑ دیں کہ
نیکوٹین چیوونگ گم یا پلستر نہ استعمال
کریں تو یہ بچے کے لیے سب سے
زیادہ صحت افزا ہے۔ لیکن اگر ان کے
بغیر مشکل ہے تو آپ کو چاہیے کے
اپنے ڈاکٹر یا دائیہ سے گفتگو کریں

تمباکونوشی کے دھوئیں سے دوچار ہونا
جب ایک حاملہ تمباکونوشی کے دھوئیں سے
دوچار ہوتی ہے تو قبل از وقت پیدائش، کم
پیدائشی وزن اور جنین کی موت کا خطرہ
بڑھ جاتا ہے۔ خاتون جتنا زیادہ دھوئیں سے
دوچار ہوگی اتنا زیادہ خطرہ بڑھے گا

▪ صحت کے ادارے کا مشورہ ہے کا حاملہ
تمباکونوشی کے دھوئیں سے دوچار نہ
ہوں، نہ تو گھر میں اور نہ ہی کام کی
جگہ پر

صحت کے ادارے کا مشورہ ہے
- کہ پورے حمل کے دوران خواتین
الکحل نہ پیئیں

► حمل کے دوران الکحل اور تمباکونوشی
سے پرہیز کریں، تمباکونوشی کے
دھوئیں سے بھی - ادویات سے بچیں،
سوائے اس صورت میں اگر آپ کے ڈاکٹر
کی ہدایت کے مطابق ہو

الکحل ختم

اگر ایک حاملہ الکحل پیے تو بچہ کے خون
میں الکحل کی مقدار وہی ہو گی جو مان
کی خون میں ہو گی۔ الکحل خاتون کے
خون میں جذب ہو گا اور آنول کے ذریعے
سے بچے تک منتقل ہو گا۔ پورے حمل
کے عرصے میں الکحل بچے کی نشوونما
کے لیے مضر ہوتا ہے۔ اس بات کی کوئی
یقینی حد اور مقدار کا علم نہیں ہے کہ مان کی
کتنی الکحل پینے یہ یقینی ہوتا ہے کہ بچہ
نقصان نہیں اٹھائے گا۔ اس لیے مشورہ دیا
جاتا ہے کہ الکحل سے مکمل طور پر پرہیز
کیا جائے

الکحل کے نقصانات مستقل ہوتے ہیں اور ان
کی نوعیت اور حجم کا انحصار اس پر ہے
کہ خاتون کتنا پیتی ہے۔ سب سے سنجدہ
نقصان دماغ کا نقصان اور قلب میں نقص ہو
سکتا ہے

تمباکونوشی ختم

اگر آپ تمباکونوشی کریں یا تمباکونوشی کے
دھوئیں سے دوچار ہوں تو بچے کے بڑھنے
کا عمل متاثر ہو گا۔ تمباکو کے دھوئیں کے
مضر مرکبات کی وجہ سے قبل از وقت
وضع حمل اور اور کم پیدائشی وزن کا خطرہ
ہوتا ہے، اور شاذ و نادر صورت میں بچہ مر
سکتا ہے۔ اگر آپ خود تمباکونوشی کرتی ہیں
تو خطرہ زیادہ ہے۔ تمباکونوشی کے دھوئیں
سے دوچار ہونا بھی خطرے کو بڑھا دیتا ہے

وضع حمل کے بعد

► وضع حمل کے بعد بھی آپ کی عادات بچے کی صحت کو متاثر کرتی ہیں



تمباکو کے دھوئیں سے آزاد ماحول

بچوں کو تمباکو کے دھوئیں سے بچایا جائے کیونکہ دھوئیں کے مضر مرکبات بچے کے سانس کے راستوں اور عمومی حالت پر بوجہ ڈالتے ہیں۔ اندر یا بچے کے قریب تمباکونوشی نہ کریں۔ وہ شیرخوار بچے، جو تمباکو کے دھوئیں سے دوچار ہوتے ہیں، ان کا پنگھوڑے میں مرنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ وہ بچے، جو تمباکو کے دھوئیں سے دوچار ہوتے ہیں، مزید بیمار ہوتے ہیں اور سانس کی بیماریوں کی وجہ سے، مزید کئی بار ہسپتال میں داخل ہوتے ہیں

صحت اور مختلف النوع کی خوراک

اکثر بچے پہلے 6 ماہ میں چھاتی کے دودھ پر نشوونما پاتے ہیں۔ آپ صحت بخش اور مختلف النوع خوارک کے کھانے کے ذریعے سے اپنی خوراک کے مجوزہ مشوروں صحت کا دھیان رکھ سکتی ہیں اور کی پیروی کرنے سے۔ اگر آپ دودھ کی مصنوعات نہیں کھاتے پہنچے تو روزانہ 500 میکروگرام اضافی کیلائیٹم لین

لنسکس: www.altomkost.dk
 ↳ www.altomalkohol.dk
 ↳ www.stoplinien.dk ↳ www.sst.dk

► دودھ پلانا کے لیے سب سے زیادہ صحت بخش غذا ہوتی ہے۔

چھاتی کے دودھ پلانے کے دورانیے میں آپ تمباکونوشی کے دھوئیں سے پرہیز کریں اور الکھل سے بچیں

دودھ پلانا اور الکھل

الکھل چھاتی کے دودھ میں جاتا ہے اور چھاتی کے دودھ میں الکھل کی وہی مقدار ہوتی ہے جو خون میں ہوتی ہے۔ ہر بیس گئے الکھل کے گلاس کو دودھ سے نکلنے کے لیے 2-3 گھنٹے لگتے ہیں۔ آپ مثلا دودھ نکالنے کے عمل سے چھاتی کے دودھ سے الکھل کے نکلنے کے عمل کو تیز نہیں کر سکتے۔ چھوٹا بچہ الکھل کے حوالے سے حساس ہوتا ہے۔ الکھل دودھ کی تشکیل کو کم کر سکتا ہے اور اس کا اثر یہ ہو سکتا ہے کہ بچہ صحیح طرح پر نہ سوئے۔ جب آپ چھاتی کا دودھ پلانے تو الکھل سے پرہیز کریں

دودھ پلانا اور تمباکونوشی

دھوئیں کی بہت سے مضر مرکبات چھاتی کے دودھ کے ذریعے سے بچے کو منتقل ہوتے ہیں اگر آپ تمباکونوشی نہیں کرتی ہیں تو چھاتی کے دودھ پلانے کا عمل جلدی شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے چھاتی کا دودھ پلانے کے دورانیے میں تمباکونوشی سے پرہیز کریں۔ اگر آپ کے لیے نیکوٹین کی مصنوعات کے استعمال کے بغیر تمباکونوشی چھوڑنا ممکن نہیں تو آپ اپنے ڈاکٹر سے بات کریں

ماحول

، اگر آپ کی بلی ہے تو آپ اس کی جگہ پلیٹ وغیرہ کی صفائی دوسرے فرد سے کروائیں یا دستانے استعمال کریں

کچن میں حفظان صحت

کھانے کے ذریعے سے بیماری سنجیدہ بیماری کا باعث ہو سکتی ہے۔ اس لیے فقط وہ گوشت کھائیں جو پوری طرح پکایا گیا ہو یا او بالا گیا ہے۔ غیر تیار شدہ قیمه کو نہ چھکیں۔ خام دودھ سے پربیز کریں (غیر پاسچرا یا ہوا دودھ)۔ مصنوعات کی ختم ہونے والی تاریخ اور رکھنے کے ٹمپریچر کی پیروی کریں۔ جب خوراک کو ملفوٹ مواد سے نکال لیا ہے تو چند دنوں کے اندر کھانا ختم کریں۔ کچن میں ایک اچھی حفظان صحت رکھیں

روابط: ↪ www.at.dk

↪ www.babykemi.dk ↪ www.ssi.dk

یعنی ماحولیاتی Miljøstyrelsen ادارہ حاملہ خواتین کو مندرجہ ذیل مشورے دیتا ہے

- بناؤ سنگھار کا سامان، کریم اور پارفیوم کم از کم استعمال کریں
- بالوں کو رنگنے سے پربیز کریں (بالوں کے رنگنے میں کیمیائی مرکبات کی وجہ سے)
- سپرے کے ڈبے کی مصنوعات کے استعمال سے پربیز کریں
- رنگنے کے کام سے پربیز کریں

◀ کیمیائی مرکبات اور غیر معمولی اوقات پر کام ان امور میں سے ہیں جو حمل پر بوجہ ڈال سکتے ہیں

کام کی جگہیں

کام کی جگہ پر خاص اصول ہیں جو حاملہ کو ایسے اثرات سے محفوظ کرتے ہیں جو حمل پر اور بچے کی نشوونما پر بوجہ ڈالتے ہوں۔ اگر آپ کو اپنے کام کی جگہ پر معاملات کے بارے میں شک ہے کہ وہ آپ کے حمل پر بوجہ کا باعث ہیں تو کام دینے والے سے گفتگو کریں۔ مثلاً وہ ایسے امور ہو سکتے ہیں:

▪ کام کرنے کی بیئت، مثلاً بھاری اشیاء اٹھانا، لمبے وقت کے لیے کھڑا ہونے یا چانے والا کام

▪ کیمیائی مرکبات، مثلاً محل م حل مصنوعات، کیڑے مار دوا، بے ہوشی کی گیسیں اور ادویات

▪ چھوٹ کا خطرہ، مثلاً جگر کی متعددی سوزش

▪ کام کے اوقات کار، مثلاً رات کا کام، لمبے وقت پر محیط ڈیوٹی

گھر - ذاتی دیکھ بھال

گھر میں مصنوعات سے کچھ اثرات ہو سکتے ہیں، وہ مصنوعات جن کا تعلق ذاتی دیکھ بھال اور صفائی سے ہوتا ہے۔ کچھ اثرات کے حوالے سے بچہ حساس ہو سکتا ہے




حمل سے قبل

- اضافی طور پر folsyre (وٹامن کی قسم)
- حتی المقدور الکھل سے پرہیز
- تمباکو کا دھواں ختم
- ادویات کا تجزیہ کریں



حمل کے دوران

- صحت بخش اور مختلف النوع اسکار کی خوراک
- اضافی طور پر folsyre (وٹامن کی قسم)
- اضافی طور پر D وٹامن
- اضافی طور پر آئرن
- ممکنہ صورت میں اضافی طور پر کیلائیئم
- روزانہ 30 منٹ کی جسمانی سرگرمی
- الکھل ختم
- تمباکو کا دھواں ختم
- ادویات کا تجزیہ کریں
- ماحولیاتی مضر مرکبات سے پرہیز



حمل کے بعد

- پہلے 6 ماہ میں چھاتی کا دودھ پلانا
- چھاتی کا دودھ پلانے کے دورانیے میں الکھل سے پرہیز
- تمباکو کا دھواں ختم